



کیا میں تم میں یہ نہ بتاؤں کہ ”عَصُ“ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس سے مراد وہ چغلی ہے جو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کر دے

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ فرمایا: ”کیا میں تم میں یہ نہ بتاؤں کہ ”عَصُ“ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس سے مراد وہ چغلی ہے جو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کر دے“
[صحیح] [اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے]

آپ ﷺ نے اپنی امت کو لوگوں میں ایک دوسرے کی بات کو غلط طریقے سے نقل کر کے لوگوں کی چغلی کھانے سے ڈرانے کا ارادہ فرمایا چنانچہ آپ ﷺ نے اپنی بات کو استفہام اور سوال کے صیغے سے شروع فرمایا تاکہ دلوں پر زیادہ اثر کرے اور متنبہ کرنے کا باعث بنے آپ ﷺ نے صحابہ سے سوال کیا: العَصُ کیا ہے؟ یعنی جھوٹ اور افترا کیا ہے؟ اس کی تشریح جادو کے ساتھ بھی کی گئی ہے پھر آپ ﷺ نے خود اس سوال کا جواب دیا کہ العَصُ لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے پیدا کرنے کا نام ہے اس لیے کہ یہی فساد، لوگوں کو تکلیف دینا، محبت کرنے والوں کے دلوں میں تفرقہ ڈالنا، رشتہ ختم کرنا اور دلوں کو غصے اور کینے سے بھرنا جادو کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کا لوگوں میں مشاغلہ کیا جا سکتا ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/5942>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

